

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں آگ سے بچاؤ کا ہفتہ 3-9 اکتوبر کے دوران منایا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (1 اکتوبر 2021) – مورخہ 3 تا 9 اکتوبر کے دوران برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹن اور اس موقع کے تعاون کنندہ اینبرج گیس آگ سے بچاؤ کا ہفتہ منا رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کو آگ سے بچاؤ اور اس حوالے سے ممکنہ تیاریوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن (NFPA) کے اعلان کے مطابق اس سال کا موضوع "آگ سے بچاؤ کی آوازیں سیکھیں!" ہو گا اور اس کا مقصد دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارم سے نکلنے والی مختلف آوازوں کی پہچان کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔

آگ سے حفاظت کی آوازوں کو پہچاننا قیمتی جانوں کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تیز آواز، دو تیز آوازوں اور بیپس کے درمیان فرق کو سمجھنے سے آپ تمام حالات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

- تین مسلسل اونچی آوازوں کے سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں دھواں یا آگ موجود ہے۔ ایسی صورت میں باہر بھاگ جائیں، باہر ہی رہیں اور 1-1-9 پر کال کریں
- ہر 30 یا 60 سیکنڈ کے بعد ایک تیز آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹری کمزور ہو گئی ہے اور اسے لازمی تبدیل کر دینا چاہیے
- بیٹری تبدیل کر دینے کے بعد مسلسل تیز آوازوں کا مطلب ہے کہ الارم کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس کو لازمی طور پر تبدیل کر دینا چاہیے۔ تمام سموک الارم ہر 10 سال بعد تبدیل کر دیں

اس بات کو یقینی بنائیں کہ دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارم خاندان کے تمام افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں، بشمول حسی یا جسمانی معنوری کے حامل افراد بھی اس کو پہچان سکتے ہوں۔ ان افراد کے لیے جو الارم کی قابل سماعت آوازیں سننے کے قابل نہ ہوں، تو ایمرجنسی کی صوت حال کی نشاندہی کے لیے ان کے لیے بصری طور پر متنبہ کرنے والا نظام تنصیب کرنا چاہیے۔

آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے دوران، حفاظتی مشوروں اور سیفٹی کی آوازوں کی نشاندہی کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [یوٹیوب](#) پر فالو کریں۔

برامپٹن کی کمیونٹی میں آگ کی حفاظت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے برامپٹن فائر پریوینشن ویک کے تعاون کنندہ، اینبرج گیس کی فیاضانہ اور مسلسل حمایت پر ان کا بہت شکریہ۔ ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد موجود دیگر لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سادہ مگر انتہائی اہم فائر سیفٹی اقدامات کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔

اقتباسات

"آگ سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی مسلسل کوششیں برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آگ سے بچاؤ کے اس ہفتے کے حوالے سے میں ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سیفٹی کی آوازوں سے ضرور واقفیت حاصل کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سیفٹی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں، حفاظت کی آوازیں سیکھیں اور اپنے دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے الارمز کو بہترین حالت میں رکھیں کیونکہ وہ زندگیاں بچاتے ہیں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سموک الارم زندگیاں بچاتے ہیں اور جب انہیں مناسب طریقے سے نصب کیا جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی رہے، تو وہ آگ سے واقع ہونے والی اموات اور زخمیوں میں کمی لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم کی مختلف آوازیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے سننے پر آپ بروقت مناسب کارروائی کر سکیں۔ گھر میں موجود ہر شخص کو اپنے الارم کی آوازوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔"

- بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پرابھوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca